

Q9. Translate into English:

بہم دنیا کی پہلی قوم نہیں ہیں جسے اپنے جبرا فیائی محل و قوع کے عدم توازن کا سامنا ہے۔ لیکن جانیے کہ دنیا میں کتنے ملک ہیں جو سرداری رسائی سے محروم ہیں۔ جو اپنے سے کئی گناہ بڑا جنم رکھنے والی قوموں کے ہمارے ہیں۔ ہم دنیا کے واحد ملک نہیں ہیں جسے وسائل کی قلت ہاماہی دوسروں نے ترقی اور سلامتی کے لیے ہمارا نہ کیوں استعمال نہیں کیا کہ ستر برس میں اپنی آبادی سات گناہ بڑھا لی۔ ناخواندہ آبادی میں تمیں گناہ انداز دیا۔ تعلیم کا معیار اس قدر گرا لیا کہ اندر وون ملک تعلیم پانے والے روز گار کی منڈی میں بے قیمت ہو گئے۔ زر مادلہ کے ذخیرہ پچھلے بیس برسوں کے بعد میں سے نکل نہیں پائے۔ معلوم ہوا کہ سرکار اس کھونج میں ہے کہ گزشتہ دس برس کے دوران لیے گئے بیرونی قرضے کہاں گئے۔ کیا کام بندوبست پر کھنے کا ایک معمولی پہمانہ یہ ہے کہ ریاستی پالیسیوں کے باعث کتنے جانی اور مالی وسائل کا زیاد ہوا؟ دہشت گردی کے تجزیے میں مزدہ اموات کا عدد ہم آسمانی سے بھلا دیتے ہیں۔ خدا کی شان ہے کہ دہشت گردی کے جواز تراشنے والے آج دہشت گردی کی مزاحمت کا دعویٰ کرنے والا سیاستی استحکام کے بغیر معیشت کی گاڑی نہیں چلتی۔

We are not the first nation which is

facing its geographical imbalance. Believe me

that there are many nations which have

inaccessibility to the sea. Those are neighbours

of bigger nations than them. We are not

the first nation which is facing lack

of resources. The other countries did not
adopted our method for development

just like increasing their population seven

times, and increasing their illiterate population

three times, decreased the education standards

to a level that educated people became

worthless in the job market. Our reserves

figure didn't changed from single digit

in previous twenty years. We get to know

that government is finding that where does

the loans taken in previous ten years are

spent. There is one common method to

check the preparedness of any country that

how much human and economic resources

are wasted due to the policies of the

state. We easily forget the loss of seventy

thousand ~~people~~ lives in the face of terrorism.

It is the glory of God that those who were finding the reason behind terrorism are now condemning terrorism. The economy can not function without political stability.

Q. 7. Translate the following into English by keeping in view figurative/idiomatic expressions. (10)

پاکستان، افغانستان میں امن کے لیے پر عزم ہے کیونکہ افغانستان میں امن، پاکستان کے لیے انتہائی اہم ہے۔ تاریخی تناظر میں دیکھا جائے تو پاکستان اور افغانستان پڑو سی برادر اسلامی ملک ہونے کے نتائج تاریخی، ثقافتی، لسانی رشتہوں میں جڑے ہوئے ہیں۔ یہ رشتہ اتوٹ ہیں، دونوں کا احصار ایک دوسرے پر ہے اور دونوں الگ الگ رہ بھی نہیں سکتے۔ پاکستان کا موقف روز اول سے ہمیں رہا ہے کہ افغان مسئلے کا سیاسی حل کالا جائے۔ اس موقف کی حیاتیت چینی بھی کرتا ہے۔ اس ضمن میں چین نے کہا ہے کہ افغان تباہی کا افغان قیادت میں ہونے والے امن مذاکرات سے ہی حل ممکن ہے۔ پاکستان اور چین اسٹریکچر شرکت داری کے لیے افغان تباہی کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے میں لپٹا کر دارا دا کریں گے۔

CSS - 2019

(Translation 2)

11:30

Pakistan is motivated for the peace in Afghanistan because it is very important for Pakistan. In the context of history, Pakistan and Afghanistan are neighbour Islamic brotherly countries which are binded in historical, cultural, and societal relations. These relations are unbreakable and both countries are dependent on each other and cannot stand separately. From the beginning, the stance of Pakistan is that ~~Afghanistan~~ solution there should be political solution of Afghanistan's problem which is also backed by China. Regarding this China said that Afghanistan's problem can be solved through dialogue in Afghan Administration.

Pakistan and China will play their role in solving Afghanistan's problem through dialogue for strategic partnership.

Note for teacher: Dear Sir/Madam, how to use idiomatic expression in translation?